

## Visit of Wendy Sherman, Deputy Secretary of State of the United States of America to India (October 05-07, 2021)

October 07, 2021

امریکہ کے نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین کا دورہ (اکتوبر 05-07، 2021)

07 اکتوبر، 2021

امریکی نائب وزیر خارجہ محترمہ وینڈی شرمین نے 5 سے 7 اکتوبر 2021 تک بھارت کا دورہ کیا۔

وزیر اعظم کے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد یہ دورہ، دونوں فریقین کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا کہ وہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدر جوزف آر بائیڈن سے ملاقات اور کواڈ لیڈرز سمٹ کے نتائج پر فالو آپ کریں۔

دہلی میں امریکی نائب وزیر خارجہ شرمین نے بھارتی وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور خارجہ سیکرٹری سے ملاقات کی۔ ممبئی میں انہوں نے کاروبار سے متعلق بات چیت کی، اور ویسٹرن نیول کمانڈ کا دورہ کیا جہاں اس نے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمرل آر ہری کمار سے ملاقات کی۔

اپنی مشاورت کے دوران، نائب وزیر خارجہ شرمین اور خارجہ سکرٹری جناب ہرش وردھن شرنگلا نے ہندوستان- امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت جاری تعاون کا جائزہ لیا، اور متعلقہ رہنماؤں کے طے کردہ مستقبل کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔

نائب وزیر خارجہ شرمین نے کووڈ وبائی مرض کے دوران ہندوستان کی جانب سے عالمی تعاون اور مدد کو سراہا۔ دونوں فریقین نے کووڈ-19 وبائی امراض پر قابو پانے پر توجہ مرکوز کی، جس میں کواڈ ویکسین شراکت داری کے ذریعے انڈو پیسیفک خطے میں ویکسین دستیاب کرانا؛ لچکدار سپلائی چین کی تعمیر اور بین الاقوامی سفر میں آسانی پیدا کرنا شامل ہے۔ آب و ہوا اور صاف توانائی، اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے معاصر مسائل کے حوالے سے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

جنوبی ایشیا کی صورتحال بشمول افغانستان میں حالیہ پیش رفت، سرحد پار دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت، اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2593 کے نفاذ سمیت امن واستحکام کو یقینی بنانے کے موضوعات کو اس بات چیت میں ترجیح دی گئی۔ دونوں فریقین خطے سے متعلق مسائل پر باقاعدہ بات چیت اور مشاورت جاری رکھیں گے۔

ایک آزاد، کھلے اور جامع بند بحر الکاہل خطے کی اہمیت کے بارے میں خیالات کا تبادلہ ہوا اور کواڈ کے مثبت اور تعمیری اقدامات کو نفاذ کرنے کے عزم کی تاکید کی گئی، جیسا کہ حالیہ رہنماؤں کے اجلاس میں اعلان کیا گیا تھا۔

نائب وزیر خارجہ شرمین اور خارجہ سیکرٹری نے انڈیا آئیڈیاز سمٹ کے ایک خصوصی سیشن میں شرکت کی، جس کا اہتمام یو ایس انڈیا بزنس کونسل نے کیا تھا۔

تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی، اور عوام سے عوام کے مابین روابط کو مضبوط کرنے کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے اور ان کی نشاندہی کرنے کے لیے مستقبل قریب میں کئی دو طرفہ مکالمے کے میکنزم طے کیے گئے ہیں۔

سرکردہ جمہوری ممالک کی حیثیت سے، دونوں ممالک اپنی مشترکہ اقدار کو استوار کرنے اور مشترکہ مفادات کے علاقائی اور عالمی مسائل پر رابطوں کی رفتار کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔

نئی دہلی

07 اکتوبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.